

جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے وہ کسی مستند و ماحر
مفتی سے معلوم کر لیں۔۔ (ابوزبیر)

روزہ سے متعلق مسائل

نالین

مفتی محمد صاحب

پیشکش: ابوزبیر

[inbox0313@yahoo.com]

فہرست

صفحہ نمبر		عنوان
03-10	-----	احادیث نبویہ ﷺ ☆
11-13	-----	فضائل ☆
14-15	-----	حقیقت، نفس فرضیت اور وجوب اداء ☆
15-19	-----	نیت سے متعلق مسائل ☆
19-21	-----	سحر و افطار ☆
21-23	-----	جن وجوہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے ☆
23-24	-----	جن وجوہ سے روزہ توڑ دینا جائز ہے ☆
24-25	-----	جن صورتوں میں روزہ واجب نہ ہونے یا فاسد ہو جانے کے باوجود کھانا پینا منع ہے ☆
25-27	-----	جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ☆
27-31	-----	جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ☆
31-32	-----	مکروہات ☆
33-36	-----	روزہ کے بارے میں چند کوتا ہیاں ☆
37-40	-----	福德یہ کے مسائل ☆
40-46	-----	روزہ کے متفرق مسائل ☆

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آیاتِ قرآنیہ

رمضان المبارک میں قرآن مجید اتارا گیا:

ترجمہ: ”رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے جس کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لئے ہدایت اور رہنمائی کی واضح علامات ہے اور فیصلہ کرنے والی ہے، سو جو شخص اس مہینے موجود ہوا سکا کارروزہ رکھنا چاہیے اور جو شخص یہاں ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام میں روزوں کی تنگی پوری کر لے۔“ (سورۃ البقرۃ: ۱۸۵)

احادیث نبویہ ﷺ

روزہ تور نے پروید:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص (قصدًا) بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کارروزہ نہ رکھے تو غیر رمضان میں چاہے عمر بھر روزے رکھے لیکن اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے (یعنی ثواب میں اس کے برابر نہیں ہو سکتے)۔“ (ترمذی، أبو داؤد،

مسند أحمد، ابن ماجہ)

چار چیزیں:

حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”(علاوه لا الہ الا اللہ رسول اللہ پر ایمان لانے کے) اللہ تعالیٰ نے اسلام میں چار چیزیں اور فرض کی ہیں پس جو شخص ان میں سے تین کو ادا کرے تو وہ اس کو (پورا) کام نہ دیں گی

جب تک سب کو ادا نہ کرے نماز، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے، بیت اللہ شریف کا حج۔“

(مسند أحمد)

(01) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية : فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلة الشياطين، وفي رواية : فتحت أبواب الرحمة .“

(بخارى و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر لئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔“

(02) وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”في الجنة ثمانية أبواب: منها باب يسمى الرّيان، لا يدخله إلا الصائمون .“ (بخارى و مسلم)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جنت کے آٹھ دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ”باب الرّيان“ ہے، اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔“

(03) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من صام رمضان إيماناً واحتساباً، غفرله ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً، غفرله ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً و

احتسابا، غفرله ما تقدم من ذنبه .” (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور جس شخص نے رمضان کی راتوں میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے عبادت کی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور جس شخص نے لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے عبادت کی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔“

(04) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم : ”كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائه ضعف ، قال الله تعالى إلا الصوم ، فإن له لى وأنا أجزى به ، يدع شهوته وطعامه من أجله . للصائم فرحتان : فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربها . ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، والصيام جنة ، وإذا كان يوم صوم أحدكم ، فلا يرفث ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إنني امرؤ صائم .“ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”انسانوں کے ہر نیک عمل کا ثواب دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: مگر روزہ اس عام قانون سے مستثنی ہے، کیونکہ وہ خاصمیرے لئے ہے اور میں (اپنی شان کے مطابق) اس کا بدلہ دوں گا، بندہ میری خاطر اپنی نفسانی خواہشات اور کھانے پینے کو قربان کرتا ہے۔

روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں: ایک خوشی (ہر روز) افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت اور روزہ دار کی منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوبیوں سے

زیادہ پا کیزہ اور پسندیدہ ہے اور روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اس کو چاہیے کہ فخش باتیں اور شور و غل نہ کرے، اگر کوئی اس کو برا بھلا کہے یا اس سے لڑتے تو اس سے کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔“

(05) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفت الشياطين و مردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة، فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا بااغي الخير! أقبل ويا بااغي الشر! أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة .“ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات باندھ لئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر لئے جاتے ہیں، پس ان میں سے کوئی دروازہ کھلانہیں رہتا اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، پس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے: ”اے نیکی کے طلبگار! آگے بڑھ اور اے برائی کے طلبگار! رک جاؤ“، اور اللہ تعالیٰ رمضان کی ہرات بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں۔“

(06) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”أتاكم رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم .“ (مسند أحمد ونسائی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ فرض کیا ہے، اس میں

آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر لئے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر لئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لئے اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس کی بھلائی سے محروم رہا تو وہ مکمل طور پر محروم رہا۔“

(07) وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”الصيام والقرآن يشفعان للعبد ، يقول الصيام : أَيْ رَب ! إِنِّي مُنْعَنِي الطَّعَامُ وَالشَّهْوَاتِ بِالنَّهَارِ ، فَشَفَعْنِي فِيهِ ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : مُنْعَنِي النَّوْمُ بِاللَّيلِ ، فَشَفَعْنِي فِيهِ ، فَيَشَفَعْنِي .“ (مشکوہ)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کرتے ہیں، روزہ کہتا ہے: اے میرے رب! میں نے اس کو دن کے وقت کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، لہذا آپ اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیجئے اور قرآن کہتا ہے: میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، لہذا آپ اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیجئے، پس دونوں کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے۔“

(08) وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : دخل رمضان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، مَنْ حَرَمَهَا فَقَدْ حَرَمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ ، وَلَا يَحِرُّمُ خَيْرَهَا إِلَّا كُلَّ مُحَرَّمٍ .“ (ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تحقیق تم پر یہ مہینہ آگیا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس کی بھلائی سے محروم رہا تو بے شک وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔“

اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رکھا جاتا مگر ہر محروم شخص کو۔“

(09) وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، فقال : يا أيها الناس ! قد أظل لكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله طوعاً. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائمًا كان له مغفرة لذنبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجراه من غير أن يتنقص من أجراه شيء، قلنا: يا رسول الله! ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى الله هذا الثواب من فطر صائمًا على مذقة لبن، أو تمرة، أو شربة من ماء. ومن أشبع صائمًا سقاوه الله من حوضى شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له، وأعتقه من النار .” (مشكوة)

ترجمہ: ”حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! تحقیق تم پر ایک عظیم مہینہ اور ایک برکت والا مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کی رات کی عبادت کو نفل قرار دیا ہے، جو شخص اس میں کوئی غیر فرض (نفل یا سنت) عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب دیگر مہینوں میں فرض ادا کرنے والے کی طرح ہے اور جو اس میں فرض عبادت بجالاتا ہے تو وہ دوسرے مہینوں میں ستر فرض ادا کرنے والے کی طرح ثواب پاتا ہے اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ

ہمدردی کا مہینہ ہے اور ایسا مہینہ ہے جس میں مومن بندے کا رزق بڑھایا جاتا ہے، جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کے لئے آگ سے چھکارے کا سبب ہو گا اور اس کو روزہ دار کے اجر کے برابر اجر ملے گا، روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی کئے بغیر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے ہر ایک روزہ دار کو افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرماتے ہیں جو تھوڑی سے دودھ پریا ایک کھجور پر یا ایک گھونٹ پانی پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض (حوضِ کوثر) سے ایسا پانی پلائے گا کہ پھر اسے جنت میں داخلے تک پیاس نہیں لگے گی اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ گناہوں سے مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے اور جو شخص اس میں اپنے غلام (نوکر) کے کام میں تخفیف (کمی) کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو جہنم سے رہائی عطا فرمائے گا۔

(10) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسيير وأعطى كل سائل .” (مشكوة)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو رہا فرماتے تھے اور ہر مالگانے والے کو دیتے تھے۔“

(11) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ”إن الجنة تزخرف لرمضان من رأس الحول إلى حول قابل ، قال فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح تحت العرش من ورق الجنة على الحور العين ، فيقلن : يا رب ! اجعل لنا من عبادك أزواجا ، تقر بهم أعيننا ، و تقر أعينهم بنا .“ (مشكوة)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لئے سجائی جاتی ہے، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے درختوں کے پتوں سے حورِ عین کے سر پر ہوا چلتی ہے تو وہ کہتی ہیں: اے ہمارے رب! ہمارے لئے اپنے بندوں میں سے شوہر مقرر فرم دیجئے تاکہ ان کی وجہ سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہماری وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔“

(12) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان، قيل يا رسول الله! أهي ليلة القدر، قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله." (مسند أحمد)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”رمضان کی آخری رات میری امت (کے روزہ داروں) کی مغفرت کی جاتی ہے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول! کیا وہ رات لیلة القدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، بلکہ کام کرنے والا جب اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اسے اسی وقت اس کی پوری مزدوری دے دی جاتی ہے۔“

فضائل

روزہ دار کے مُنہ کی بومشک سے زیادہ پسندیدہ ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ابن آدم کے ہر نیک عمل کا اجر و ثواب دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”روزہ اس سے مستثنی ہے، اس لئے کہ وہ خاص میرے لئے ہے اور میں خود (اپنے شایان شان) اس کا بدلہ دوں گا کہ روزہ دار میری ہی خاطر نفسانی خواہشات اور رکھانے پینے کو قربان کرتا ہے۔ روزہ دار کے لئے دو فرحتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسرا فرحت اپنے رب سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی اور روزہ دار کے مُنہ کی بدبواللہ تعالیٰ کے نزد یک مشک کی خوبصورتی سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔“ (صحاح سنہ)

روزہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے:

رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (بخاری)
مسند احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اگلے گناہ بھی معاف کر دیئے جائیں گے۔

رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں:

ماہِ رمضان شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیئے جاتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

روزہ دار کے لئے جنت کا مخصوص دروازہ:

جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ”باب الرّیان“ کہا جاتا ہے، روزہ داروں کو اس طرف بلایا جائے گا (کہ اس دروازہ سے جنت میں داخل ہوں) چنانچہ تمام روزہ دار اس سے داخل ہوں گے اور جو اس سے داخل ہو گیا، اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ (بخاری و مسلم)

روزہ توڑنے پر عید:

جو شخص (قصدًا) بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کا روزہ افطار کر دے، غیر رمضان میں چاہے عمر بھر روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتے۔ (ترمذی، أبو داود، أحمد، ابن ماجہ)

یہ فضائل کیسے حاصل ہوں گے؟

(۱) روزہ کے جتنے فضائل سطورِ بالا میں بیان کئے گئے ہیں، ان کے حصول کی لازمی شرط یہ ہے کہ روزہ ہر قسم کے منکرات و معاصی اور بدعتات سے اجتناب کے ساتھ رکھا جائے، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک اور قلب و دماغ اطاعت سے معمور اور معصیت سے محنتب ہوں۔ کسبِ معاش، معاملات، معاشرت غرض حقوق اللہ و حقوق العباد کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے بچانے کی کوشش ہو۔

روزہ وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ قرآن کریم نے اسے تقویٰ یعنی ترکِ معاصی کا نسخہ قرار دیا ہے، مگر کتنے مسلمان ہیں جو پچاس پچاس، ساٹھ ساٹھ سال سے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی نمایاں تبدیلی نظر نہیں آتی، جو گناہ ان کی زندگی میں تھے، وہ سالوں روزے رکھنے کے باوجود جوں کے توں ہیں، اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آج کل کے مسلمان روزے سے گناہ چھوڑنے کا قصد و نیت ہی نہیں کرتے اور گناہوں سے اجتناب کے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہی نہیں، جو باطنی امراض سے حصولِ شفاء کے لئے شرط لازم ہے۔ ایسے لوگوں کا روزہ گوجہر علماء کی روای کے مطابق ذمہ سے سقوطِ فرض کا ذریعہ بن جائے گا مگر اس سے کوئی فضیلت اور ثواب حاصل نہیں ہوگا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹے کردار و گفتار سے بازنہ آیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا



پیاسار ہنے سے کوئی غرض نہیں۔“ (بخاری)

★ ”بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے روزہ کا شمرہ بھوکار ہنے کے سوا اور کچھ نہیں اور

بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کے لئے شب بیداری کا بدلہ سوانے جانے کے اور کچھ نہیں۔“ (ابن ماجہ)

(۲) دور حاضر میں عموماً فضائل کے بیان پر خوب زور دیا جاتا ہے اور فضائل کے حصول کے موانع اور عیندوں کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، جس سے عوام کا نظریہ بن جاتا ہے کہ خوب گناہ کئے جاؤ، روزوں سے، لیلۃ القدر سے یافلاں عمل صالح سے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس بارے میں یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ جن روایات میں رمضان کے روزوں، شب قدر کی عبادت یا کسی بھی عمل صالح سے گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، علماء کے نزدیک اس سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے۔ ٹی وی، وی سی آر، گانا بجانا، بلا ضرورت جاندار کی تصویر بانا یا گھر میں رکھنا، غیبت کرنا یا سننا، ڈاڑھی منڈانا یا کٹانا، عورتوں کا شرعی پرداہ نہ کرنا، مردوں کا ٹھنے ڈھانکنا، بینک، انشور نس یا کسی بھی حرام ذریعہ سے کمائی کرنا اور ایسے لوگوں کی دعوییں اور ہدیے قبول کرنا، بدعاں اور فرائض واجبات اداء کرنے میں کوتاہی جیسے کبیرہ گناہوں سے خرید و فروخت، حقوق العباد اور فرائض واجبات اداء کرنے میں کوتاہی جیسے کبیرہ گناہوں سے جب تک صدقِ دل سے توبہ و استغفار اور آئینہ اجتناب کا عزم مصمم نہ کیا جائے، وہ محض کسی عمل صالح سے معاف نہیں ہوتے۔

اس بناء پر ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ماہ مقدس کے آغاز ہی سے ہر قسم کے گناہوں سے کلیہ احتراز کرے اور جن گناہوں کی عادت پختہ ہو گئی ہے، ان کو ہمیشہ کے لئے چھوڑنے کی نیت کے استحضار کے ساتھ روزے رکھے، اگر اس اہتمام کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے کا مختصر سا وقت گزارا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ نفس کی اصلاح نہ ہو اور دنیا و آخرت کو تباہ کرنے والے مہلک

امراض اور معاصی سے نجات نہ ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ نسخہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔

روزہ

حقیقت، نفس فرضیت اور وجوب اداء و صحت اداء کی شرائط

حقیقت:

روزہ کی حقیقت مخصوص شرائط کی رعایت کے ساتھ صحیح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے سے رکے رہنا ہے۔

فی البدائع: ”وَأَمَّا الشَّرِيعَةُ: فَهُوَ الْإِمسَاكُ عَنِ الْأَشْيَاءِ مُخْصُوصَةٍ، وَهِيَ الْأَكْلُ وَالشَّرْبُ وَالْجَمَاعُ، بِشَرَائطٍ مُخْصُوصَةٍ۔“ (۷۵/۲)

نفس فرضیت:

روزہ ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے، جس کی فرضیت قرآن و سنت، اجماع امت اور عقل و درایت سے ثابت ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ نفس فرضیت کی تین شرائط ہیں:

(۱) مسلمان ہونا۔ (۲) عاقل ہونا۔ (۳) بالغ ہونا۔

”أَمَّا الشَّرَائطُ الْعَامَةُ، فَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الصَّائِمِ، وَهُوَ شَرْطٌ أَهْلِيَّةُ الْأَدَاءِ۔“

(بدائع: ۷۷/۲)

چنانچہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے۔

وجوب اداء:

رمضان ہی میں ادائیگی کے فرض ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں:

(۱) تند رست ہونا۔ (۲) مقیم ہونا۔ (۳) حیض و نفاس سے پاک ہونا۔

”وشرط وجوب الأداء، الصحة والإقامة .“ (هندية : ١٩٥ / ١)

”وهي (شرط وجوب أدائه) ثلاثة : الصحة والإقامة والخلو من حيض ونفاس .“ (ردد المختار : ٣٧٢ / ٢)

لهذا امر يرض او رمسافر چا ہیں تو رمضان میں اداء کرنے کی بجائے بعد میں قضاء بھی رکھ سکتے ہیں۔

صحت اداء:

صحت روزہ کے لئے دو شرطیں ہیں:

(۱) حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ یہ شرط صحت بھی ہے اور شرط وجوب بھی ہے۔

”هو لغة إمساك مطلقاً، وشرعياً إمساك عن المفطرات الآتية حقيقة أو حكماً، في وقت مخصوص وهو اليوم من شخص مخصوص مسلم كائن في دارنا أو عالم بالوجوب ظاهر عن حيض أو نفاس مع النية .“ (الدر المختار : ٣٧١ / ٢)

(۲) نیت کرنا۔

نیت سے متعلق مسائل

نیت کا مطلب:

نیت بس اس حد تک کافی ہے کہ دل میں اسے معلوم ہو کہ فلاں روزہ مثلاً رمضان کا یا نذر کا رکھ رہا ہوں بلکہ روزہ کا تذکرہ کئے بغیر صرف سحری کھالے تو یہ بھی نیت کے قائم مقام ہے۔

(البحر الرائق : ٢٥٩ / ٢)

ابتنہ اگر سحری کھاتے ہوئے نیت کر لی کہ صحیح روزہ نہ رکھوں گا تو یہ کھانا روزہ کی نیت کے قائم مقام نہ ہو گا۔

”فلو عزم عليه (على الأكل) ثم أصبح وأمسك، ولم ينوم الصوم، لا يصير صائمًا“

(رد المحتار : ٣٨٠ / ٢).“

نیت کا وقت:

نیت کا وقت غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے یا عین غروب کے وقت کی نیت کا اعتبار نہیں۔ رمضان، نذر معین یا نفل روزہ ہو تو نصف النہار تک یہ وقت رہتا ہے، جبکہ ہر قسم کے کفارات اور نذر مطلق میں ہر روزہ کے لئے غروب آفتاب سے صحیح صادق تک وقت رہتا ہے۔ صحیح صادق کے بعد نیت کا اعتبار نہیں۔

نصف النہار کا مطلب:

صحیح صادق سے غروب آفتاب تک کل وقت کے نصف کو نصف النہار شرعی کہا جاتا ہے، مثلاً صحیح صادق چھ بجے ہوا اور غروب چھ بجے ہو تو نصف النہار بارہ بجے ہو گا اور اگر صحیح صادق چھ بجے ہوا اور غروب آفتاب سات بجے ہو تو نصف النہار ساڑھے بارہ بجے ہو گا۔ اس سے پہلے پہلے نیت کی جاسکتی ہے۔ اس وقت کی مقدار ہر موسم میں اور ہر مقام میں مختلف ہوتی ہے، اس لئے اس کا ایسا کوئی متعین وقت نہیں بتایا جاسکتا جس وقت ہر جگہ نصف النہار ہو بلکہ ایک مقام میں بھی پورے رمضان کے لئے نصف النہار کا ایک وقت نہیں ہو گا، صحیح صادق اور غروب آفتاب کا وقت بد لنے سے بدلتا رہے گا، اس لئے ضابطہ مذکورہ کے مطابق عمل کیا جائے۔ (رد المحتار:

(٣٧٧ / ٢)

★ اگر کوئی شخص رمضان، نذر معین یا نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے تو افضل یہ ہے کہ رات ہی سے ہر ایک کی تعین کر کے نیت کر لے، لیکن اگر رات سے نیت نہ کی تو نصف النہار (دوپہر) سے پہلے پہلے بھی نیت کر سکتا ہے، جبکہ ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو۔

”فيصـح أداء صـوم رـمضـان وـالنـذر الـمعـين وـالنـفل بـنـية مـنـ اللـيل، فـلا تـصـح قـبـلـ“

الغروب ولا عنده إلى الضحوة الكبرى، لا بعدها ولا عندها .” (درمختار :

(۳۷۷/۲)

” والأفضل أن يبيت النية في موضع تجوز نيته من النهار .“ (هندية : ۱۹۶/۱)

☆ روزہ رکھنے والا (خواہ مسافر ہو یا مقیم، تدرست ہو یا بیمار) اگر دن میں نیت کر رہا ہے تو
یہ نیت کرے کہ شروع دن (جع صادق) سے میرا روزہ ہے، اس کی بجائے اگر یوں نیت کی کہ
اس وقت سے میرا روزہ ہے تو روزہ نہ ہو گا۔

”تبیه : وإذا نوى الصوم من النهار ينوى أنه صائم من أوله، حتى لو نوى قبل
الزوال أنه صائم من حين نوى لا من أوله، لا يصير صائما .“ (رد المحتار :

(۳۷۷/۲)

☆ اگر کسی نے رمضان، نذرِ معین یا نفل روزہ میں تعین کے بغیر مطلق روزہ کی نیت کر لی،
یعنی صرف یہ نیت کی کہ آج میرا روزہ ہے یا سب میں نفل روزہ کی نیت کی تو بھی جائز ہے۔ یعنی
رمضان ہونے کی صورت میں رمضان ہی کا روزہ شمار ہو گا اور نذرِ معین ہونے کی صورت میں نذر
ہی کا روزہ شمار ہو گا۔

” ويصح أداء صوم رمضان والذر المعين والنفل وبمطلق النية أي نية
الصوم وبنية نفل لعدم المزاحم .“ (درمختار : ۳۷۷/۲)

☆ اگر رمضان میں کسی پربے ہوشی طاری ہو گئی یا جنون لاحق ہوا، پھر نصف النہار سے
پہلے پہلے ہوش میں آ کر روزہ کی نیت کر لی تو روزہ درست ہے۔ (حوالہ بالا)

یہ حکم ان تینوں قسم کے روزوں کی اداء کا تھا، ان کی قضاء اور روزہ کی بقیہ تمام اقسام
(کفارات یعنی قسم کا کفارہ، روزہ کا کفارہ، ظہار کا کفارہ، قتل کا کفارہ اور نذر مطلق) میں ہر روزہ
کی متعین طور پر نیت کرنا اور رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی روزہ کی نیت

صح صادق کے بعد کی یا مطلق روزہ کی نیت کی یا نفل روزہ کی نیت کی تو وہ نفل روزہ ہوگا، رمضان کی قضاۓ کے علاوہ باقی صورتوں میں اسے پورا کرنا مستحب ہے اور توڑنے پر قضاۓ نہیں، البتہ قضاۓ رمضان کی صورت میں اس کی قضاۓ لازم ہے۔

فی الہندیۃ : وَإِذَا نُوی الصوم للقضاء بعد طلوع الفجر حتى لا تصح نیتہ عن القضاۓ، یصیر شارعاً فی التطوع، فَإِن أَفْطَر يلزمه القضاۓ كذا فی الذخیرۃ .”

(۱۹۷/۱)

وفی الشامیۃ : ”فَلَوْ نُوی تلک الصیامات نهاراً كَانَ تطوعاً، وَإِتَّماماً مُسْتَحِبّ، وَلَا قضاۓ بِإِفْطَارِه .“ (۳۸۰/۲)

نیت کی پھر ختم کر دی:

اگر رات کو روزہ کی نیت کر لی، پھر نیت بدل گئی اور صح صادق سے پہلے پہلے پختہ ارادہ کر لیا کہ روزہ نہیں رکھنا تو روزہ کی نیت باطل ہو گئی، اب تجدید نیت کے بغیر یونہی بھوکا پیاسا دن گزار دیا تو روزہ نہیں ہوا۔

فی الہندیۃ : ”وَلَوْ نُوی مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نیتہ قَبْلَ طَلُوعِ الْفَجْرِ، صَحَّ رَجُوعُه فِی الصِّیامَاتِ كُلَّهَا .“ (۱۹۵/۱)

روزہ رکھنا، پھر توڑنے کی نیت کر لی:

روزہ رکھنے کے بعد دل میں توڑنے کی نیت کر لی تو روزہ نہ ٹوٹے گا جب تک کہ کوئی بات روزہ کو توڑنے والی صادر نہ ہو۔

فی الہندیۃ : ”وَإِذَا نُوی الصائمُ الْفَطْرُ وَلَمْ يَحْدُثْ شَيْئاً غَيْرَ النِّيَةِ، فَصُومُهُ تَامٌ .“

(۱۹۵/۱)

رات کو نیت کر کے سوگیا:

اگر رات کو روزہ کی نیت کر کے سوگیا پھر صحیح ہونے سے پہلے اٹھ کر کچھ کھاپی لیا تب بھی نیت میں کوئی خلل نہ آئے گا اور روزہ صحیح ہو جائے گا۔ (خلاصة الفتاوى: ٢٥١/١، هندیہ)

(۱۵۵/۱)

رمضان کے ہر روزہ کی الگ نیت ضروری ہے:

ماہِ رمضان میں ہر روزہ کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے، اگر شروعِ رمضان میں ہی نیت کر لی کہ پورے مہینے کے روزے رکھوں گا تو یہ نیت صرف پہلے روزے کی حد تک معتبر ہے۔

فی الدر: ”ويحتاج صوم كل يوم من رمضان إلى نية.“ (۳۷۹/۲)

سحر و افطار

سحر کھانا سنت ہے:

سحری کھانا سنت ہے، اگر بھوک نہ ہو اور کھانا نہ کھائے تو کم سے کم دو تین چھوڑے ہی کھالے یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھالے، کچھ نہ سہی تو تھوڑا سا پانی ہی پی لے۔

فی الدر: ”ويستحب السحور.“ وفی الحاشیة: ”ولم أر صريحا فی کلامهم أنه يحصل السنة بالماء وحده، وظاهر الحديث يفيده، وهو ما رواه أحمد: السحور كله برکة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء الخ.“

(رد المحتار : ۴۱۹/۲)

وفی الہندیہ: ”التسحر مستحب ووقته آخر اللیل.“ (۲۰۰/۱)

سحری میں آنکھنہ کھلی:

اگر رات کو سحری کھانے کے لئے آنکھنہ کھلی، سب کے سب سو گئے تو بغیر سحری کھائے صحیح کو

روزہ رکھنا ضروری ہے، سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی کم ہمتی کی بات ہے اور بڑا گناہ ہے۔

مشتبہ وقت میں سحری کھانا:

اگر انی دری ہو گئی کہ صبح ہو جانے کا شہہ پڑ گیا تو اب کچھ کھانا مکروہ ہے اور اگر ایسے وقت کچھ کھاپی لیا تو برا کیا اور گناہ ہوا۔ پھر اگر معلوم ہو گیا کہ اس وقت صبح ہو گئی تھی تو اس روزہ کی قضاۓ رکھنے اور اگر کچھ معلوم نہ ہو، شہہ شہہ ہی رہ جائے تو قضاء رکھنا واجب نہیں۔

”ومحل الاستحباب ما إذا لم يشك في بقاء الليل، فإن شك كره الأكل في الصحيح، كما في البدائع.“ (رد المحتار: ٤١٩ / ٢)

وفى الهندية: ”إذا شك فى الفجر، فالأفضل أن يدع الأكل، ولو أكل فصومه تام الم يتيقن أنه أكل بعد الفجر فيقضى حينئذ، كذا في فتح القدير.“ (١٩٤ / ١)

روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے:

کھجور یا چھوارے سے روزہ کھولنا بہتر ہے یا اور کوئی میٹھی چیز ہو اس سے کھولے، وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کرے۔

”عن أنس أنه عليه الصلوة والسلام كان يفطر على رطبات قبل أن يصلى، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات، حسا حسوات من ماء، رواه أبو داؤد.“ (الزيلعى: ٤٤٣ / ١)

بعض لوگ نمک کی لنکری سے افطار کرتے ہیں اور اس میں ثواب سمجھتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ (بہشتی زیور)

افطار کرنے والے کو ثواب:

جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا اسے بھی روزہ دار جتنا ہی اجر ملے گا، لیکن روزہ دار کے

اجر میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ (ترمذی ،نسائی ،ابن ماجہ)

جن وجوہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے

بیماری بڑھ جانے یا جان جانے کا خوف:

مسئلہ: اگر ایسا بیمار ہے کہ روزہ سے نقصان ہوتا ہے اور یہ ڈر ہے کہ روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یاد یہ میں اچھا ہو گا یا جان جاتی رہے گی تو روزہ نہ رکھے، جب اچھا ہو جائے تو اس کی قضاۓ رکھ لے، لیکن فقط اپنے دل سے ایسا خیال کر لینے سے روزہ چھوڑنا درست نہیں، بلکہ جب کوئی مسلمان دین دار حکیم، طبیب کہہ دے کہ روزہ تم کو نقصان دے گا تب چھوڑنا چاہئے۔

”ومريض خاف الزيادة بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور .“

(در مختار : ۴۴۲/۲)

مسئلہ: اگر حکیم یا ڈاکٹر کافر ہے یا شرع کا پابند نہیں ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں، فقط اس کے کہنے سے روزہ نہ چھوڑے۔

”أَمَا الْكَافِرُ، فَلَا يَعْتَمِدُ عَلَى قَوْلِهِ، لَا حَتَّمًا أَنْ غَرْضُهُ إِفْسَادُ الْعِبَادَةِ .“

(رد المختار : ۴۲۲/۲)

”أَوْ بِإِخْبَارِ طَبِيبِ مُسْلِمٍ غَيْرِ ظَاهِرِ الْفَسْقِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .“

(الہندیۃ : ۲۰۷/۱)

مسئلہ: اگر حکیم نے تو کچھ نہیں کہا لیکن خود اپنا تجربہ ہے اور کچھ ایسی نشانیاں معلوم ہوئیں جن کی وجہ سے دل گواہی دیتا ہے کہ روزہ نقصان دے گا تب بھی روزہ نہ رکھے اور اگر خود تجربہ کارنہ ہو اور اس بیماری کا کچھ حال معلوم نہ ہو تو فقط خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر دین دار حکیم کے بتائے بغیر اور تجربہ کئے بغیر اپنے خیال ہی خیال سے رمضان کا روزہ توڑے گا تو کفارہ دینا پڑے گا اور اگر صحیح سے روزہ ہی نہ رکھے گا تو گنہگار ہو گا، قضاۓ واجب ہو گی، کفارہ نہیں۔

فی الدر : ”أو مريض خاف الزيادة بغلبة الظن بأماراة أو تجربة .“
وفی الحاشیة : ”إذا أخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط وأفطر، فالظاهر لزوم الكفارۃ، كما لو أفطر بدون أمارة ولا تجربة .“ (رد المحتار مع الدر)

(٤٢٢/٢)

مسئلة: اگر بیماری سے اچھا ہو گیا لیکن ابھی ضعف باقی ہے اور یہ ڈر ہے کہ اگر روزہ رکھا تو پھر بیمار ہو جائے گا تب بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔

فی الدر : ”وصحیح خاف المرض .“ وفی الحاشیة : ”بغلبة الظن كما يأتي .“

(٤٢٢/٢)

حاملہ اور دودھ پلانے والی کوب رخصت ہے؟

حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو جب اپنی جان کا یا نچے کی جان کا کچھ ڈر ہوتا وہ روزہ نہ رکھے، پھر بعد میں قضاء رکھ لے، لیکن اگر اپنا شوہر مالدار ہے کہ کوئی دایہ رکھ کر دودھ پلواسکتا ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کو روزہ چھوڑ دینا درست نہیں، البتہ اگر بچہ سوائے اپنی ماں کے کسی اور کادودھ نہ پیتا ہو تو ایسے وقت میں ماں کو روزہ نہ رکھنا درست ہے۔

”أو حامل أو مرضع خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها، وقيده البهنسى تبعاً لابن الكمال، بما إذا تعينت للإرضاع .“ (در مختار : ٤٢٢/٢)

سفر میں رخصت :

مسئلة: اگر کوئی مسافر سفر میں ہو تو اس کے لئے بھی جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے، پھر بعد میں اس کی قضاء رکھ لے۔

(در مختار : ٤٢١/٢)

مسئلة: مسافر کو روزے سے اگر کوئی تکلیف نہ ہو جیسے ریل پرسوار ہے اور یہ خیال ہے کہ شام

تک گھر پہنچ جاؤں گا یا اس کے پاس سب راحت و آرام کا سامان موجود ہے تو ایسے سفر میں روزہ رکھ لینا بہتر ہے اور اگر روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں قضاۓ رکھ لے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ ہاں رمضان شریف کے روزے کی جو فضیلت ہے اس سے محروم رہے گا اور اگر راستہ میں روزہ کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی ہو تو ایسے وقت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔

”ولکن الصوم أفضـل إـن لم يضرـه .“ (رد المحتار : ٤٢١ - ٤٢٣)

مسئلہ: اگر بیماری سے اچھا نہیں ہوا، اسی میں مر گیا یا ابھی گھر نہیں پہنچا، سفر ہی میں مر گیا تو جتنے روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹے ہیں آخرت میں ان کا مواخذہ نہ ہو گا اور نہ ان کے لئے فدیہ کی وصیت لازم ہے، کیونکہ اسے قضاۓ رکھنے کی مہلت نہیں ملی۔

”فإـن ماتـوا فـيـه أـيـ فـيـ ذلك العـذـرـ، فـلا تـجـبـ عـلـيـهـمـ الـوـصـيـةـ بـالـفـدـيـةـ، لـعـدـمـ إـدـرـاكـهـ عـدـدـ مـنـ أـيـامـ أـخـرـ .“ (در مختار : ٤٢٤ / ٢)

مسئلہ: اگر راستہ میں پندرہ دن رہنے کی نیت سے ٹھہر گیا تو اب روزہ چھوڑنا درست نہیں کیونکہ اب وہ مسافر نہیں رہا، اگر پندرہ دن سے کم ٹھہر نے کی نیت ہو تو روزہ نہ رکھنا درست ہے۔

”ولـوـ نـوـيـ مـسـافـرـ الـفـطـرـ أـوـ لـمـ يـنـوـ فـأـقـامـ وـنـوـيـ الصـومـ فـيـ وـقـتـهـاـ قـبـلـ الزـوـالـ صـحـ مـطـلـقاـ وـيـجـبـ عـلـيـهـ الصـومـ لـوـ كـانـ فـيـ رـمـضـانـ، لـزـوـالـ الـمـرـخـصـ .“ (در مختار : ٤٣١ / ٢)

جن وجوہ سے روزہ توڑ دینا جائز ہے

بیماری بڑھ جانے یا جان جانے کا خوف:

اچانک ایسا بیمار پڑ گیا کہ اگر روزہ نہ توڑے گا تو جان پر بن آئے گی یا بیماری بہت بڑھ جائے گی تو روزہ توڑ دینا درست ہے، جیسے اچانک پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ بیتاب ہو گیا یا سانپ

نے کاٹ کھایا تو دو اپی لینا اور روزہ توڑ دینا درست ہے، ایسے ہی اگر ایسی پیاس لگے کہ ہلاکت کا ڈر ہو تو بھی روزہ توڑ ڈالنا درست ہے۔

”المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالاجماع وإن خاف زيادة العلة أو امتداده، فكذلك عندنا، وعليه القضاء إذا أفتر.“ (ہندیہ :

(۲۰۷/۱)

مسئلہ: حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو کوئی ایسی بات پیش آگئی جس سے اپنی جان کا یا بچہ کی جان کا ڈر ہے تو روزہ توڑ ڈالنا درست ہے۔

فی الہندیہ : ”الحامل والمريض إذا خافا على أنفسهما أو ولدهما، أفتر تاوقضا .“ (۲۰۷/۱)

مسئلہ: کوئی سخت کام کرنے کی وجہ سے بے حد پیاس لگ گئی اور اتنی بے تابی ہو گئی کہ اب جان کا خوف ہے تو روزہ توڑ دینا درست ہے اور بعد میں قضاء لازم ہے، لیکن قصدًا بلا ضرورت ایسا کام کرنا گناہ ہے، البتہ اگر محتاج ہے، نفقہ کا کوئی اور انتظام نہیں اور ایسا کام کرنے پر مجبور ہو تو گناہ بھی نہ ہوگا۔

فی الشامية : ”قال الرملی : وفي جامع الفتاوى ولو ضعف عن العمل لاشتغاله بالمعيشة، فله أن يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع .“ وفي الدر : ”لا يجوز أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف .“ (در مختار : ۴۲۰/۲)

جن صورتوں میں روزہ واجب نہ ہونے یا فاسد ہو جانے کے باوجود کھانا پینا منع ہے

کسی نے رات کے گمان میں سحری کھائی حالانکہ صحیح ہو چکی تھی یا غروب کے گمان میں افطار کر لیا حالانکہ دن ابھی باقی تھا یا مسافر دن میں سفر سے لوٹ آیا یا عورت دن میں حیض و نفاس

سے پاک ہو گئی یا مجنون کو دن میں افاقہ ہو گیا یا کسی کا روزہ ٹوٹ گیا، خواہ جبراً تڑوا دیا گیا یا غلطی سے پانی وغیرہ حلق میں اتر گیا یا کافر دن میں مسلمان ہو گیا یا نابالغ بالغ ہو گیا تو ان تمام صورتوں میں دن کا باقیہ حصہ بغیر کھائے پئے روزہ داروں کی طرح گذارنا واجب ہے اور آخر کے دو شخصوں (نومسلم، نوابالغ) کے سوا باقیہ تمام لوگوں پر اس روزہ کی قضاء بھی واجب ہے، اگرچہ نے بلوغ کے بعد نصف النہار سے پہلے روزہ کی نیت کر لی، جبکہ ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو تو اس کا نفل روزہ ہو جائے گا، عورت صحیح صادق کے بعد پاک ہو کر روزہ کی نیت کر لے یا کافر مسلمان ہونے کے بعد نیت کر لے تو اس کا روزہ نہ ہو گا نہ فرض نہ نفل۔

”ولو بلغ صبی او اسلام کافر امسک یومہ ولم یقض شيئا كل من صار فى آخر النهار بصفة لو كان فى اول النهار عليها للزممه الصوم فعليه الإمساك كالحائض والنفسياء تطهر بعد طلوع الفجر أو معه والمجنون يفيق و المريض يبرأ والمسافر يقدم بعد الزوال أو الأكل والذى افتر عمداً أو خطأ أو مكرها أو أكل يوم الشك ثم استبان الزمن رمضان أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت أو تسحر بعد الفجر ولم یعلم صبی بلغ قبل الزوال ونصرانی اسلام و نویا الصوم قبل الزوال لا یجوز صومهما عن الفرض غیران الصبی یكون صائما عن التطوع بخلاف الكافر لفقد الاهلية في حقه .“ (البحر : ٢٨٨ - ٢٨٩)

مفسدات (جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے)

خطاً کوئی چیز کھاپی لی یا زبردستی کھلادی گئی:

☆ روزہ یاد تھا مگر لکھ کرتے ہوئے یاناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بے اختیار کچھ پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

☆ نیند میں کسی نے پانی منه میں ڈال دیا اور پی گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔

☆ کھانے پینے یا جماع پر مجبور کیا گیا یعنی روزہ نہ توڑنے کی صورت میں جان سے مار دینے یا کسی عضو کے تلف کر دینے یا کسی بڑے صدمے سے دوچار کرنے کی دھمکی دی گئی اور اس نے یہ کام کر لئے تو روزہ جاتا رہا۔

☆ بھول کر کھاپی لیا یا جماع کر لیا یا احتلام ہو گیا یا نظر شہوت سے دیکھ کر انزال ہو گیا یا تھوڑی سی قہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر ان صورتوں میں اس نے یہ گمان کر کے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا قصداً کھاپی لیا یا جماع کر لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔

مندرجہ بالا تمام صورتوں میں صرف ایک روزہ قضاء رکھنا فرض ہے، کفارہ لازم نہیں۔

”أَكُلُّ أَوْ جَامِعٌ نَّاسِيَا أَوْ احْتَلَمُ أَوْ انْزَلَ بِنَظَرٍ أَوْ ذرَعَهُ الْقَيْعَ فَظِنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ فَأَكَلَ عَمَدًا لِلشَّبَهَةِ وَلَوْ عِلْمٌ بِعَدَمِ فَطْرَهِ لِزَمْتَهِ الْكَفَارَةُ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَنَّ فَلَا كَفَارَةٌ مُطْلَقاً عَلَى الْمَذْهَبِ لِشَبَهَةِ . (رد المحتار : ۴۰۱ / ۲)

قہ کی صرف دو صورتیں مفسدِ صوم ہیں:

قہ کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے صرف دو صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے: ایک یہ کہ قصدًا منہ بھر کر قہ کی، خواہ باہر پھینک دے یا منہ میں لوٹا لے۔ دوسرا صورت یہ ہے کہ بے اختیار منہ بھر کر قہ آئی اور اس نے قصدًا منہ میں لوٹا لی اگرچہ چنے کے برابر ہی لوٹائی ہو، ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضاء واجب ہو جاتی ہے بشرطیکہ قہ کرتے وقت روزہ یاد ہو اور قہ میں بھی کھانا یا پانی یا صفراء یا خون آئے، بلغم نکلنے سے کسی صورت میں روزہ نہیں جاتا۔

ان دو صورتوں کے سوا قہ کی جتنی صورتیں ہیں کسی میں روزہ نہیں ٹوٹتا، مثلاً قصداً قہ کی اور منہ بھر کر نہ آئی یا بے اختیار آئی مگر منہ بھر سے کم تھی یا منہ بھر تھی مگر لوٹائی نہیں، خواہ وہ باہر نکل آئی یا بے اختیار لوٹ گئی یا لوٹائی مگر چنے کی مقدار سے بھی کم یا قصدًا منہ بھر قہ کی یا بلا قصد منہ

بھر آئی اور لوٹا لیکن روزہ دار ہونا یاد نہ تھا تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہ ٹوٹا۔

قال فی الدر : ” وإن ذرعه القيء و خرج ولم يعد، لا يفطر مطلقاً ملأً أولاً، فإن عاد بلا صنعه ولو هو ملء الفم مع تذكرة للصوم لا يفسد خلافاً للثانى وإن أعاده أو قد رحمة منه فأكثر، حدادى أفتر إجماعاً ولا كفاره إن ملأ الفم وإلا فلا هو المختار، وإن استقاء عامداً إن كان ملء الفم فسد بالإجماع .“

(در مختار : ٤١٤)

اگر ایک مجلس میں قصد اب اب بار ق کی جس کا مجموعہ منہ بھر کی مقدار کو پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور مجموعی مقدار اس سے کم ہو یا کئی مجالس میں اتنی ق کی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

قال فی الفتح : ” ولو استقاء مراداً : ”فِي مَجْلِسٍ مُّلْفِيْهِ، لِزْمٌ الْقَضَاءِ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسٍ، أَوْ غَدْوَةً ثُمَّ نَصْفَ النَّهَارِ ثُمَّ عَشِيهَ، لَا يَلْزَمُهُ، كَذَا نَقْلٌ مِّنْ خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ .“ (فتح القدير : ٢٦٠ / ٢)

ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا

(۱) بھول کر کھا پی لینا :

بھول کر کھانے پینے یا جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ فرض و واجب روزہ ہو یا نفل، مگر کسی کو یاد دلا یا گیا کہ تو روزہ دار ہے، پھر بھی اسے یاد نہ آیا اور کھاتا پیتا پیتا پیتا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس صورت میں صرف قضاء ہے کفارہ نہیں۔

باقی رہایہ مسئلہ کہ کسی کو کھاتے پینے دیکھ کر روزہ یاد دلانا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ روزہ دار اس قدر کمزور اور لا غرہ ہے کہ یاد دلانے پر کھانا تو چھوڑ دے گا مگر کمزوری بڑھ جائے گی اور روزہ پورا کرنا بھی دشوار ہو گا تو یاد نہ دلانا بہتر ہے اور قوی ہو تو یاد دلانا واجب ہے۔

فی الدر : ”إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا ويدركه لو قويا والا لا وليس عذرا في حقوق العباد أو دخل حلقة غبار أو ذباب أو دخان أو دهن أو اكتحل لم يفطر .“ (در مختار : ٣٩٤ / ٢ - ٤٠٠ ، ومثله في فتح القدير :) ٢٥٤ / ٢

(٢) خوشبو اور دھواں :

کسی قسم کی خوشبو خواہ وہ کتنی ہی تیز ہو سو نگھنے سے روزہ نہیں جاتا، اسی طرح گرد و غبار مکھی یا کسی قسم کا دھواں بے اختیار حلق میں اتر جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا گو کہ روزہ یاد ہو۔ ہاں! اگر اپنے قصد و اختیار سے دھواں پہنچایا تو روزہ ٹوٹ جائیگا، مثلاً از خود جلتی سگریٹ، لوبان، اگر بقی وغیرہ کے قریب آ کر ان کا دھواں لیتا رہا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ (حوالہ بالا)

(٣) سرمہ اور تیل وغیرہ :

روزہ میں سرمہ (یا آنکھ کی کوئی دوا) ڈالنا اور ڈاڑھی مونچھوں پر تیل لگانا بھی بلا کراہت جائز ہے، اگرچہ ان کا مزہ حلق میں محسوس ہو یا تھوک میں سرمہ کا رنگ بھی دکھائی دے، جبکہ یہ چیزیں ضرورت کے تحت استعمال کی جائیں اور مقصد زینت وزیبائش نہ ہو، ورنہ ان کا استعمال مکروہ ہوگا۔ اسی طرح پچھنے لگوانے میں بھی کراہت نہیں بشرطیکہ کمزوری لاحق ہونے کا اندریشہ نہ ہو۔

(حوالہ بالا)

(٤) مسوک :

مسوک جیسے بغیر روزہ کے ہر وضو میں سنت ہے یوں ہی روزہ میں بھی سنت ہے، خواہ صحیح استعمال کی جائے یا شام کو اور خواہ تر ہو یا خشک اور مسوک کرتے ہوئے اس کا کوئی ریشہ بے اختیار حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہ ٹوٹے گا۔

”ولَا (يَكُرِهُ) السُّوَاقُ وَلَوْ عَشِيَا أَوْ رَطْبَا بِالْمَاءِ، عَلَى الْمَذْهَبِ .“

(ردمختار : ۴۱۹/۲)

(۵) کلی وغیرہ:

اسی طرح وضو کی ضرورت کے بغیر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، گیلا کپڑا بدن پر لپیٹنا بلکہ راہت جائز ہے، جبکہ مقصد صرف ٹھنڈک حاصل کرنا ہو، بے صبری اور پریشانی ظاہر کرنے کے لئے یہ کام مکروہ ہیں۔

”وَكَذَا لَا تَكُرِهْ حِجَامَةً وَتَلْفُفَ بَثُوبَ مَبْتَلٍ، وَمَضْمَضَةً أَوْ اسْتِنْشَاقَ أَوْ اغْتِسَالَ لِلتَّبَرُدِ عِنْدَ الشَّانِيِّ وَبِهِ يَفْتَنِيْ“.

(درمختار : ۴۱۹/۲ ، ومثله في مراقي الفلاح مع الطحاوي: ص ۳۷۲)

(۶) ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا:

☆ کوئی دواء کوئی اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا۔

☆ ہلیلہ یا اور کوئی چیز منہ میں چوستار ہاگر اس کا کوئی جزء حلق میں نہیں اترا۔

☆ کان میں پانی پڑ گیا یا خود ڈالا یا تنکالے کر کان کھجایا اور اسے میل لگ گئی اور اسی میل سمیت دوبارہ بار بار کان میں ڈالا۔

☆ دانتوں کے درمیان چلنے سے کم مقدار کی کوئی چیز پھنسی رہ گئی اسے نکل گیا۔

☆ دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا اور پیٹ تک نہ پہنچا، یا پیٹ میں پہنچ گیا مگر تھوک اس پر غالب تھا۔

☆ ناک کی رطوبت سڑک کر حلق میں لے گیا اور وہ پیٹ میں اتر گئی یا منہ کی رال اور بلغم اسی طرح نکل گیا، خواہ یہ چیزیں اندر ہی اندر نکل لیں یا ناک اور منہ سے باہر نکل کر بہنے لگیں لیکن دھار ٹوٹنے نہ پائی تھی کہ نکل لیں۔

☆ گفتگو کرتے ہوئے ہونٹ لعاب سے تر ہو گئے اور اسے زبان سے چاٹ کر نکل لیا۔

تل یا اس جیسی خفیف سی چیز منہ میں ڈال کر چبائی اور وہ حلق میں اتر گئی مگر اس کا مزہ محسوس نہ ہوا۔

مندرجہ بالاتمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا۔

”لا یفطر الصوم ان“ بقی بلل فی فيه بعد المضمضة أو ابتلعه مع الريق کطعم أدوية ومص إهليج بخلاف نحو سكر أو دخل الماء في أذنه وإن كان بفعله على المختار كما لوحك أذنه بعود ثم أخرجه وعليه درن ثم أدخله ولو مراراً أو ابتلع ما بين أسنانه وهو دون الحمصة لأنه تبع لريقه ولو قدرها أفتر أو دخل أنفه مخاط فاستشمہ فدخل حلقة وإن نزل لرأس أنفه كما لو ترطب شفتاه بالبزاق عن الكلام ونحوه فابتلعه الخ۔“ (الدرالمختار : ٣٩٦/٢)

☆ صح صادق سے پہلے پان کھا کر منہ اچھی طرح صاف کر لیا مگر صح ہونے کے بعد بھی پان کی سرخی تھوک میں دکھائی دیتی ہے تو تھوک نگلنے سے روزہ نہ ٹوٹے گا۔

فی الدر ”أو بقی بلل فی فيه بعد المضمضة وابتلعه مع الريق، کطعم أدوية ومص إهليج .“ (٣٩٦/٢)

نجکشن:

نجکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لئے کہ نجکشن کے ذریعہ دا جوف عروق میں پہنچائی جاتی ہے اور خون کے ساتھ شراپین یا وریدوں میں اس کا سریان ہوتا ہے، جوفِ دماغ یا جوفِ بطن میں دو نہیں پہنچتی، اگر پہنچتی بھی ہے تو وریدوں اور مسامات کے ذریعہ پہنچتی ہے اور فساد صوم کے لئے مفطر کا جوفِ دماغ یا جوفِ بطن میں بذریعہ منفذ اصلی پہنچنا ضروری ہے، مطلقاً کسی عضو کے جوف میں یا عروق (شراپین اور وریدوں) کے جوف میں پہنچنا مفسد صوم نہیں، لہذا نجکشن

کے ذریعے سے جو دو ابدن میں پہنچائی جاتی ہے مفسد صوم نہیں۔ (امداد الفتاویٰ: ۲/۱۴۵، امداد المفتین: ص ۸۹)

مکروہات

(۱) بلا عذر کوئی چیز چکھنا یا چبانا:

بلا عذر زبان سے کوئی چیز چکھنا یا منہ میں رکھ کر چبانا روزہ دار کے لئے مکروہ ہے، اگر عذر سے چکھے مثلاً کسی عورت کا خاوند بد مزاج ہے اور عورت کو ڈر ہے کہ اگر سالن میں نمک کم و بیش ہو گیا تو خاوند بگڑ جائے گا تو زبان سے چکھنے میں کراہت نہیں۔

اسی طرح عورت کا چھوٹے بچے کو بلا عذر کوئی چیز چبا کر کھلانا بھی مکروہ ہے، لیکن عذر سے کھلانے کے بچے کے لئے دوسری نرم غذا موجود نہ ہو، نہ ہی بغیر روزہ کے کوئی دوسرا آدمی موجود ہو جو بچے کو غذا اچبا کر دے تو ایسی صورت میں کراہت نہیں، اسی طرح روزہ دار اگر کھانے کی چیز خریدتے وقت زبان سے چکھ لے تو کراہت نہیں، بشرطیکہ اس چیز کی طرف اسے سخت احتیاج ہو اور بغیر چکھے خریدنے میں نقصان کا اندیشہ ہو۔

ان تمام صورتوں میں کراہت کا حکم فرض واجب روزہ سے متعلق تھا، انقلی روزہ ہو تو کراہت نہیں۔

”وَكَرِهٌ لِهِذُوقُ شَيْءٍ وَكَذَا مَضْعُهُ بِلَا عذرٍ وَفِي كَرَاهَةِ الْذُوقِ عِنْدَ الشَّرَاءِ قَوْلَانَ، وَوَفْقٌ فِي النَّهَرِ بِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ بَدَا، وَلَمْ يَخْفَ غَبَنَا كَرِهٌ، وَإِلَّا لَا وَهَذَا فِي الْفَرْضِ لَا النَّفْلِ .“ (در مختار: ۲/۴۱۶)

(۲) قصد اتحوک جمع کر کے نگنا:

منہ میں قصد اتحوک جمع کر کے نگل جانا مکروہ ہے لیکن بلا قصد جمع ہو جائے تو نگنا مکروہ نہیں۔

”لَوْ جَمَعَ الرِّيقَ قَصْدًا ثُمَّ ابْتَلَعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَفْسَدُ صَوْمَهُ .“

(مراقبی الفلاح مع الطحطاوی : ص ۳۷۲)

(۳) منجن یا پیسٹ:

کوئلے، منجن اور ٹو تھہ پیسٹ سے دانت صاف کرنا اور عورتوں کا مسمی یاددا سہ لگانا مکروہ ہے، اگر ان کا کوئی جزء حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ (إمداد الفتاوى : ۱۴۱/۲)

، أحسن الفتاوى : ۴/۱۳۹)

(۴) بلا ضرورت دانت نکلوانا:

روزہ میں ڈاکٹر سے دانت یا ڈاڑھ نکلوانا اور اس جگہ دواء لگانا بوقتِ ضرورتِ شدیدہ جائز ہے اور بلا ضرورت مکروہ ہے، اگر دواء یا خون پیسٹ کے اندر جائے اور تھوک پر غالب ہو جائے یا اس کے برابر ہو یا اس کا مزہ محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔

فی الدر : ”أو خرج الدم من بين أسنانه ودخل حلقه، يعني ولم يصل إلى جوفه، أما إذا وصل، فإن غالب الدم أو تساويه فسد، وإلا لا، إلا إذا وجد طعمه . بزازية وهو ما عليه الأكثر .“ وفي الحاشية : ”ومن هذا يعلم حكم من قلع ضرسه في رمضان ودخل الدم إلى جوفه في النهار .“ (رد المحتار مع الدر :

(۳۹۶/۲)

(۵) غیبت وغیرہ:

غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان تراشی، بیہودہ گوئی، گالی گلوچ، ایذ ارسانی اور گناہ کے تمام کام یوں توہر وقت ہر حال میں حرام و ناجائز ہیں مگر روزہ دار آدمی کے لئے ان کی حرمت و شناخت دو چند ہو جاتی ہے اور ان کے سبب روزہ سخت مکروہ ہو جاتا ہے بلکہ حدیث کے مطابق ان گناہوں کی خوست سے روزہ کا اجر و ثواب ہی غارت ہو جاتا ہے۔

روزہ کے بارے میں چند کوشاہیاں

دوسری عبادات کی طرح روزہ کے معاملہ میں بھی مسلمانوں میں بہت سی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے، یہاں روزہ کے مکروہات یا مفسدات کی تفصیل پیش کرنا مدنظر نہیں، بلکہ بعض ایسی کوتاہیوں کی نشان دہی مقصود ہے جن کی طرف عام روزہ داروں کی توجہ کم جاتی ہے۔

(۱) بلا عذر روزہ نہ رکھنا:

معذور و مجبور آدمی کے لئے روزہ نہ رکھنا اور رکھنے کے بعد بعض حالات میں توڑنا جائز ہے، مگر شرعاً کون لوگ معذور کی فہرست میں آتے ہیں؟ اس کا فیصلہ کرنا ہر شخص کا کام نہیں، بعض جی چور اور کاہل لوگ روزہ کبھی رکھتے ہی نہیں اور از خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم سے روزہ نہ رکھا جائے گا، حالانکہ رکھ کر دیکھ لیں تو آسانی سے رکھ سکیں، بے ہمتی اور کم حوصلگی کا نام مجبوری رکھ لیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کو عذر ہوتا ہے مگر وہ اختیاری اور خود ساختہ قسم کا ہوتا ہے، مثلاً شرعی سفر کے دوران روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے مگر اسے سفر کی ضرورت درپیش نہیں، یونہی گھر سے نکل پڑا۔ غرض کسی مفتی سے پوچھے بغیر عذر کا فیصلہ جائز نہیں۔

(۲) غیر معذور کا فدیہ دینا:

بعض بے باک قسم کے لوگ اس گھمنڈ میں روزہ ضائع کرتے رہتے ہیں کہ ہم فدیہ دے دیں گے۔ حالانکہ زندگی میں فدیہ ادا کرنا صرف ایسے شخص کے لئے جائز ہے جو روزہ رکھنے سے بالکل معذور اور آیندہ کے لئے بھی مایوس ہو، اگر مرنے سے پہلے کسی وقت بھی روزہ رکھنے کی قوت آگئی تو یہ فدیہ معتبر نہ رہے گا۔

فی خلاصۃ الفتاویٰ : ”کفارۃ الفطر و کفارۃ الظہار و احده، و هی عتق رقبة مؤمنة او کافرۃ، وإن لم يقدر على العتق، فعلیه صیام شهرین متتابعين، وإن لم

يستطيع فعليه إطعام ستين مسكينا .” (۲۶۱ / ۱)

وفي الهندية : ” ولو قدر على الصيام بعد ما فدى ، بطل حكم الفداء الذي فداه ، حتى يجب عليه الصوم .“ (۲۰۷ / ۱)

(۳) قریب البلوغ صحت مند بھوں کو روزہ سے روکنا :

بعض دیندار لوگ بھی بچوں سے روزہ نہیں رکھاتے ، حالانکہ بعض بچوں کی عمر اور قوت و صحت ایسی ہوتی ہے کہ وہ با سانی روزہ رکھ سکتے ہیں ، بلوغ سے پہلے اگرچہ بچوں پر روزہ واجب نہیں ، مگر ان کے سر پرستوں پر لازم ہے کہ جب قریب البلوغ ہوں اور روزہ کا تحمل کر سکیں تو ان سے روزہ رکھوائیں دس سال کی عمر ہونے کے بعد تو روزہ نہ رکھنے پر مارنے کا حکم بھی موجود ہے ، پچھے جب عبادت کا خونگر ہو گا تو بلوغ کے بعد اعمال کی پابندی میں اسے کوئی دشواری نہ ہوگی ۔

” ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه ، ويضرب عليه ابن عشر ، كالصلوة في الأصح ”

” (در مختار : ۴۰۹ / ۲) ”

(۴) معدود کار خصت پر عمل نہ کرنا :

بعض لوگ افراط اور غلو کا شکار ہو کر شریعت کی دی ہوئی رخصت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے ۔
مثلاً پر مشقت سفر یا تکلیف دہ بیماری میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے ۔

بعض حاملہ یا دودھ پلانے والی عورتیں اپنی جان اور بچے کو ضرر پہنچا کر بھی روزہ رکھتی ہیں اور بعض غلط اندیش کمسن معصوم بچوں سے بھی روزہ رکھاتے ہیں حالانکہ انہیں روزہ کا تحمل نہیں ہوتا ، یہ سب باتیں علماء و صلحاء کی صحبت سے دور رہنے اور مقصد شریعت نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے ۔

في الشامية : ” فلا تبقى الفريضة مشروعة (أي عند الرخصة المسقطة للعزيمة) فإذا أراد تحصين العزيمة معبقاء سبب الرخصة يأثم واحترز بقوله (مسقطة) عن رخصة الترفية، فإن العزيمة تبقى فيها مشروعة معبقاء سبب الرخصة كالصوم ”

فی السفر .“ (۲۶۴ / ۱)

(۵) سحری میں عجلت یا تاخیر:

سحری بعض لوگ بہت جلد آدمی رات کو کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں، ایسی تعجیل بھی گو جائز ہے، مگر سحری کی اصل حکمت (کہ روزہ میں ضعف لامق نہ ہو اور قوت برقرار رہے) کے خلاف ہے اور بعض جگہ عوام یہ غلط اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ جب ایک بار سحری کھا کر نیت کر لی یا سو گئے تو اب کوئی چیز کھانا پینا جائز نہیں، اگرچہ رات باقی ہو۔ اس غلط اعتقاد سے توبہ کرنا واجب ہے۔ بعض اس کے برعکس سحری اتنی تاخیر سے کرتے ہیں کہ روزہ ہی مشتبہ ہو جاتا ہے، ان کی نظر نقشوں اور گھڑیوں پر ٹکنی رہتی ہے حالانکہ دونوں میں غلطی کا امکان ہے۔ پس احتیاط اسی میں ہے کہ نقشوں اور گھڑیوں کے وقت سے بھی کچھ دیر پہلے آدمی فارغ ہو جائے۔

کچھ حضرات یہ سوچ کر کہ لوگ سحری چھوڑ دیں فخر کی اذان وقت سے کچھ پہلے دیتے ہیں، اس میں بھی بہت سی قبائل ہیں اس لئے اذان اپنے وقت پر ضروری ہے۔

فی الدر : ” ويستحب السحور و تأخيره .“ و فی الحاشية : ” ومحل الاستحباب ما إذا لم يشك في بقاء الليل، فإن شك كره الأكل في الصحيح .“

(رد المحتار مع الدر : ص ۴۱۹)

(۶) افطار میں عجلت یا تاخیر:

افطار میں بعض لوگ بہت عجلت سے کام لیتے ہیں جس سے روزہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ نقشوں میں تو اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ پھر سحر و افطار کے نقشوں میں دیئے گئے اوقات یقینی نہیں ہوتے بلکہ حسابی اعتبار سے تقریبی ہوتے ہیں۔ بعض ناس بھر ریڈ یوکی اذان (خواہ وہ کسی دوسرے شہر کی ہی ہو) سن کر افطار کر دیتے ہیں، پھر ریڈ یوکی اذان اور سارے وغیرہ عموماً نقشوں کے مطابق بجائے جاتے ہیں، لہذا ان پر مکمل اعتماد کرنا صحیح نہیں، خصوصاً جبکہ کئی ایسے واقعات ہو بھی چکے

ہیں کہ سائرن یا اذان کے وقت آفتاب کو آنکھوں سے دیکھا گیا ہے، ۱۳۹۷ھ مصان ۱۳ مارچ کو ریڈ یو پاکستان نے چار پانچ منٹ قبل ہی اذان دینا شروع کر دی، جو ابھی مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ اس کے بعد صحیح وقت پر اذان نشر کی، لاکھوں افراد نے پہلی اذان پر روزہ افطار کر کے اپنا روزہ خراب کیا، اس لئے اپنی گھریوں کو معیاری وقت پر کھیں اور افطار کسی ماہر کے بنائے ہوئے نقشے میں دیئے گئے وقت کے ۳ منٹ بعد کریں، جہاں اتنے گھنٹے صبر کر لیا وہاں دو تین منٹ کا انتظار کیا مشکل ہے؟

بعض وہمی لوگ وقت ہو جانے کے باوجود افطار میں تاخیر کرتے ہیں، ایسی تاخیر حدیث کی رو سے منوع ہے۔

افطار میں مشغول ہو کر ترک جماعت یا تاخیر:

کئی لوگ افطار کے بعد کھانے پینے میں اتنی دیر تک مشغول رہتے ہیں کہ مغرب کی جماعت بالکل فوت ہو جاتی ہے یا ایک دور کعت نکل جاتی ہیں۔

مسجد کی جماعت نکل جانے پر کچھ حضرات گھر میں اپنی جماعت کر لیتے ہیں جو اسکیلے نماز پڑھنے سے تو بہتر ہے مگر مسجد کی جماعت کا کسی طرح بدل نہیں۔

اس مسئلہ کا آسان حل یہ ہے کہ افطاری گھر کی بجائے مسجد میں کی جائے، لیکن اس میں مسجد کے آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کھانے کی کوئی چیز مسجد میں گرنے نہ پائے، اس میں شور و غل بلکہ بلا ضرورت گفتگو بھی نہ ہو اور کوئی ایسا کام بھی نہ کیا جائے جس سے مسجد میں آنے والے نمازوں کو تشویش ہو۔

اگر گھر مسجد کے قریب ہو تو گھر میں بھی مختصر افطاری کے بعد تکبیرۃ تحریم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔

فی الدر: ”وَيَسْتَحِبْ تَعْجِيلُ الْفَطْرِ .“ وَفِي الْحَاشِيَةِ: ”إِلَّا فِي يَوْمِ غَيْمٍ“

ولا يفطر مالم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذن المؤذن، بحر، وفيه عن
شرح الجامع لقاضي خان، التعجيل المستحب قبل اشتباك النجوم .” (رد المحتار
مع الدر : ٤٢٠ / ٢)

فديه کے مسائل

روزہ پر نہ قدرت ہونے آئندہ امید:

جس کو اتنا بڑھا پا ہو گیا ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی یا اتنا بیمار ہے کہ اب نہ اچھے
ہونے کی امید ہے نہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے بد لے ایک
مسکین کو صدقہ فطر کے برابر غلہ دے دے یا صبح و شام پیٹ بھر کے اس کو کھلادے۔ اس کو فدیہ
کہتے ہیں۔ اگر غلہ کے بد لے میں اسی قدر غلہ کی قیمت دے دے تو بھی درست ہے۔
پھر اگر کبھی طاقت آگئی یا بیماری سے اچھا ہو گیا تو سب روزے قضا رکھنے پڑیں گے اور جو
فديہ دیا ہے اس کا ثواب الگ ملے گا۔

فی الدر : ”فإن عجز عن الصوم لمرض لا يرجى برءه أو كبر أطعم .“ وفي
الحاشية : ”فلو برئ وجوب الصوم، رحمتى .“ (رد المحتار مع الدر : ٤٧٨ / ٣)

میت نے فدیہ کی وصیت کی ہو:

جس کے ذمہ کئی روزے قضاء تھے وہ مرتے وقت وصیت کر گیا کہ میرے روزوں کے
بد لے فدیہ دے دینا تو اس کے مال سے اس کا ولی فدیہ دے دے اور کفن، دفن، قرض اداء کر
کے جتنا مال بچے اس کی ایک تھائی سے اگر سارا فدیہ اداء کرنا ممکن ہو تو دینا واجب ہو گا اور اگر
سارا فدیہ تھائی مال سے اداء نہ ہو سکتا ہو تو جس قدر اداء ہو سکتا ہو دے دیا جائے۔

” ولو فات صوم رمضان بعدر المرض أو السفر، أو استدام المرض والسفر،
حتى مات، لا قضاء عليه، لكنه إن أوصى بأن يطعم عنه صحت وصيته وان لم

تحب عليه ويطعم عنه من ثلث ماله فإن برئ المريض وأدرك من الوقت بقدر مافاته فيلزمه قضاء جميع ما أدرك فإن لم يضم حتى أدركه الموت، فعليه أن يوصى بالفدية .“ (هندية : ١ / ٢٠٧)

فديہ کی وصیت نہ کی ہو:

اگر اس نے وصیت نہیں کی مگر ولی نے اپنے مال سے فدیہ دے دیا تب بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ شاید قبول کرے اور ان روزوں کا مواخذہ نہ کرے۔

بغیر وصیت کئے خود میت کے مال میں سے فدیہ دینا جائز نہیں، اسی طرح اگر تھائی مال سے زیادہ ہو جائے تو باوجود وصیت کے بھی زیادہ دینا سب وارثوں کی رضا مندی کے بغیر جائز نہیں، ہاں سب وارث نہایت خوش دلی سے راضی ہو جائیں تو دونوں صورتوں میں فدیہ دینا درست ہے، لیکن نابالغ وارث کی رضا کا شرع میں کچھ اعتبار نہیں، بالغ وارث اپنا حصہ جدا کر کے اس میں سے دے دیں تو درست ہے۔

فی الشامیة : ”أَمَا إِذَا لَمْ يُوصَ بِفِدِيَّةِ الصُّومِ، يَحُوزَ أَنْ يَتَبرَّعَ عَنْهُ وَلِيَهُ فَإِنْ زَادَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْثَّلَاثِ، لَا يَلْزَمُ الْوَلِيُّ إِخْرَاجُ الزَّائِدِ إِلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ .“ (٢ / ٧٢)

(٧٣ -

وفی الہندیۃ : ”فَإِنْ لَمْ يُوصَ وَتَبرَّعَ عَنْهُ الْوَرَثَةُ جَازَ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ غَيْرِ إِيصَاءِ

(١ / ٢٠٧).

فديہ کی مقدار:

اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو صحت کے بعد روزہ قضاء رکھنا فرض ہے، البتہ اگر صحت کی کوئی امید نہیں رہی اور آخر دم تک روزہ رکھنے کی طاقت لوٹنے سے بالکل مایوسی ہے، چھوٹے اور مختنڈے ایام میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تو ایک روزہ کے عوض نصف صاع

گندم یا اس کی قیمت کسی مسکین کو دیدے۔

فی الہندیۃ : ”ویطعم عنہ ولیه لکل یوم نصف صاع من بر او صاعا من تمر او صاعا من شعیر . کذا فی الہدایۃ .“ (۲۰۷/۱)

نصف صاع کی مقدار:

نصف صاع بعض علماء کے قول کے مطابق پونے دو کلو کا ہوتا ہے، جبکہ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق سوا دو کلو کا ہوتا ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ سوا دو کلو گندم یا اس کی قیمت اداء کی جائے، کیونکہ اس میں فدیہ کی ادائیگی یقینی ہے۔ عبادات میں احتیاط ہی پر عمل کرنا چاہئے۔ (احسن)

الفتاویٰ : ۴/۴۳۲ - ۴۳۴)

福德یہ و کفارہ کا فرق کو دینا جائز نہیں:

福德یہ اور کفارہ کا کھانا کافر حربی (جو کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہو) کو دینا بالاتفاق جائز نہیں اور ذمی (جو کسی مسلم ملک میں رہتا ہو) کو دینے میں اختلاف ہے، عدم جواز راجح ہے۔ البتہ اگر کسی نے دے دیا تو کفارہ اداء ہو جائے گا۔

فی الشامیۃ : ”وفی الحاوی : وإن أطعم فقراء أهل الذمة جاز، وقال أبو يوسف لا يجوز و به نأخذ، قلت : بل صرح فی کافی الحاکم بأنه لا يجوز، ولم یذکر فيه خلافا، وبه علم أنه ظاهر الروایة عن الكل .“ (۲۷۹/۳)

گذشتہ سالوں کے فدیہ میں وقتِ اداء کی قیمت معتبر ہے:

اگر کسی کے چالیس سال قبل روزے قضاء ہو گئے، اب بوجہ ضعف قضاۓ رکھنے سے معذوری ہے، تو کیا فدیہ میں گندم کی قیمت چالیس سال قبل کی لگائی جائے گی جب روزے قضاء ہوئے تھے، یا موجود رخ لگایا جائے گا، اگر اقساط میں فدیہ اداء کیا جائے تو نیت کے روز جو رخ ہے وہ محسوب ہوگا، یا بوقت اداء جو رخ ہوگا وہ واجب الاداء ہوگا؟ اس بارے میں عموماً لوگ سوال

کرتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ فدیہ میں اصل واجب خود گیوں ہے، قیمت اس کے قائم مقام ہے، اس لئے اگر قیمت دینا چاہیے تو بہر صورت وقت اداء کے نزخ کا اعتبار ہے۔

فی الدر : ” وجاز دفع القيمة في زكاة وعشرين و كفاره غير الإعتاق ، وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الأداء . وفي السوائم يوم الأداء إجماعا وهو الأصح . وفي الشامية تحته (قوله وهو الاصح) أي كون المعتبر في السوائم يوم الأداء إجماعا هو الأصح فإنه ذكر في البدائع أنه قيل إن المعتبر عنده فيها يوم الوجوب وقيل يوم الأداء اهـ ، وفي المحيط : يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح اهـ فهو تصحيح للقول الثاني الموافق لقولهما وعليه فاعتبار يوم الأداء يكون متفقاً عليه عنده وعندهما . ” (در مختار : ٢٥٨ / ٢)

فديہ رمضان سے قبل دینا جائز ہیں:

رمضان سے قبل ادائے کرنے سے فدیہ ادائے ہو گا، البتہ رمضان شروع ہونے کے بعد آئندہ ایام کا فدیہ ایک ساتھ دے سکتے ہیں۔ (أحسن الفتاوى : ٤ / ٤٣٥)

روزہ کے متفرق مسائل

روزہ پر قدرت ہو تو کھانا کھلانے سے کفارہ ادائے ہو گا:

مولل: مسئلہ یہ ہے کہ آج سے ۳ سال پہلے میں نے ایک گناہ کر کے رمضان کا روزہ توڑ دیا تھا، جس کا کفارہ ابھی تک ادائے نہیں کیا۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لئے میں روزہ کا کفارہ دینا چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں شادی شدہ بھی ہوں اور بہت سخت مزدوری کرتا ہوں، جس کی وجہ سے ۲ ماہ کے روزے رکھنا بہت مشکل ہے۔ باقی رہا مسئلہ ۶۰ مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلانے یا ایک مسکین کو دو ماہ دو وقت کا کھانا کھلانے کا تواب میں مسکین کہاں سے ڈھونڈوں۔

مجھ کو تو اپنی مزدوری سے فرصت نہیں۔ مہربانی فرما کر مجھ کو کچھ اچھا سامشورہ عنایت فرمائیں۔ اگر ایسا ہو جائے کہ آپ دو وقت کے کھانے کی گل رقم جو ۶۰ مسکینوں کی بنتی ہے مجھے بتادیں تو میں مدارس کے طالب علموں کو خود بانٹ دوں گا یا مجاہدین کے دفتر میں جمع کر دوں گا۔

(ن-ب۔ خوشاب)

جواب: ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے آپ کا کفارہ اداء نہیں ہوگا، ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے تو اس شخص کا کفارہ ادا ہوتا ہے، جو بہت بوڑھا ہو، روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور موت سے پہلے اس کی طاقت واپس آنے کی امید بھی نہ ہو، یا ایسا یمار ہو کہ نہ فی الحال روزہ رکھنے پر قادر ہو اور نہ آیندہ کے لئے اس کی صحت کی امید ہو۔ آپ تو ماشاء اللہ صحت مند ہیں، آپ کو قمری مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کرنے کی صورت میں دو ماہ اور پہلی تاریخ کے بعد شروع کریں تو ساٹھ دن روزے رکھنے ہوں گے اور ایک دن قضا روزہ بھی۔
چھوٹے اور ٹھنڈے دنوں میں رکھنے کی کوشش کریں، آخرت کا عذاب یاد کریں، روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ رات میں بیوی سے ہمستری کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

فی الہندیۃ : ”وَالْأَصْلُ فِيهِ : أَنَّ كُلَّ صومٍ إِذَا كَانَ أَصْلًا بِنَفْسِهِ جَازَ الإِطْعَامَ بَدْلًا عَنْهُ إِذَا وَقَعَ الْيَأسُ عَنِ الصَّوْمِ .“ (۲۰۷/۱)

سفر کی وجہ سے رمضان اکتیس یا اٹھائیس دن کا ہو گیا:

سؤال: مکہ مکرمہ میں پاکستان سے ایک یادو روز قبل چاند دکھائی دیتا ہے، اگر کوئی شخص رمضان میں مکہ مکرمہ سے پاکستان آیا اور پاکستان میں اکتیس کی شام کو چاند نظر نہ آیا تو یہ شخص کیا کرے گا؟ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے اکتیس روزے ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی پاکستان سے مکہ مکرمہ جائے تو اس کے اٹھائیس ہی روزے ہوں گے، اس کا کیا حکم ہے؟

(انور زیب۔ ایبٹ آباد)

جواب: اگر اہل پاکستان نے اس شخص کی روئیت ہلال سے متعلق خبر کتب فقہ میں مذکورہ شرائط کے مطابق قبول کر لی تو اہل پاکستان اس کے قول کے مطابق عید منا میں گے اور ایک روزہ قضاء رکھیں گے اور اس آنے والے کے روزے پورے ہو جائیں گے اور اگر اس کی خبر قبول نہ کی گئی جیسا کہ عموماً ہوتا ہے تو یہ شخص اکتیسوال روزہ بھی رکھے گا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ عید کرے گا، مکرمہ جانے کی صورت میں اہل مکہ کے ساتھ عید کرے اور ایک روزہ قضاء رکھے۔

”ولو أكمل هذا الرجل ثلاثين يوماً، لم يفطر إلا مع الإمام.“ (ہندیہ :

(۱۹۸/۱)

روزہ رکھ کر دوسرے ملک چلا گیا:

سؤال: ایک شخص نے پاکستان میں روزہ رکھا، پھر دوسرے ملک چلا گیا تو اب وہ پاکستان کے وقت کے مطابق افطار کرے گا یا اس ملک کے وقت کے مطابق جہاں وہ گیا؟ (ضیاء الدین صدیقی - کوئٹہ)

جواب: جہاں گیا ہے اس ملک کے وقت کے مطابق افطار کرے گا۔

نکسیر کا خون اندر جانا مفسد ہے:

سؤال: نکسیر کا خون حلق سے پیٹ میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟

جواب: روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضاء واجب ہے، کفارہ نہیں۔

روزہ میں سانپ نے کاٹ لیا:

سؤال: کیا سانپ کے کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ (بیشیر - کراچی)

جواب: سانپ، بچھو وغیرہ کے کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

رمضان میں ایام روکنے والی دوائے کا استعمال:

سئلہ: اگر کوئی عورت قضاۓ سے بچنے کی یہ تدبیر کرتی ہے کہ ایام (حیض) روکنے والی دوائیں استعمال کرتی ہے تو یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ اس سے روزہ پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ (ایک خاتون۔ کراچی)

جواب: جب تک ایام نہ آئیں، روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ حجح ہو جائے گا۔ البتہ ایسی دواؤں کا استعمال اس شرط سے جائز ہے کہ کسی ناپاک چیز سے بُنی ہوئی نہ ہوں اور صحت کے لئے مضر نہ ہوں۔

پہلی کے چاند کا چھوٹا بڑا ہونا:

سئلہ: بسا اوقات رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق پہلی کا چاند نسبتاً بڑا نظر آتا ہے، جس سے لوگ شبہہ میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہ دو تاریخ کا چاند ہے، اس بارے میں شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ (عبداللہ۔ کراچی)

جواب: چاند کے چھوٹا بڑا ہونے کا شریعت میں اعتبار نہیں بلکہ ہلال کمیٹی کے قواعد شرعیہ کے مطابق کئے ہوئے اعلان کا اعتبار ہے۔

حدیث میں آتا ہے حضرت ابوالحنتری کہتے ہیں کہ ہم لوگ عمرے کے سفر پر نکلے، جب بطن نخلہ میں پہنچ تو ہم نے (رمضان کا) چاند دیکھا، بعض سماں تھی کہنے لگے یہ دو راتوں کا چاند ہے، بعض نے کہا یہ تو تین راتوں کا ہے، جب ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جا کر ملے تو ان سے یہ قصہ عرض کیا۔ انہوں نے پوچھا: ”کس رات تم نے دیکھا تھا؟“ ہم نے کہا فلاں رات کو، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ”یہ اسی رات کا ہے، جس میں تم نے اس کو دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے رمضان کا وقت چاند دیکھنا مقرر فرمایا ہے۔“ (رواه مسلم، مشکوحة مع المرقاۃ: ۴/ ۴۷۴)

اس حدیث کے ذیل میں ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ پہلی کے چاند موٹے اور بڑے دکھائی دیں گے۔

(مرقاۃ : ۴ / ۴۷۴)

اسی وجہ سے فقہاء حرمہم اللہ تعالیٰ نے پہلی کے چاند کا جنم بڑا دیکھ کر اس طرح کے شبہات کا تذکرہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (رجال المختار : ۳ / ۳۵۴)

شادی کے بعد پہلا رمضان میکے میں گزارنا:

سوال: جب کسی شخص کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد آنے والا پہلا رمضان لڑکی اپنے والدین کے گھر گزارتی ہے اور اس کو لڑکی کے حقوق میں سمجھا جاتا ہے، اس عمل پر نہ شوہر راضی ہوتا ہے، نہ بیوی، بلکہ محض برادری کے طعن و تشنج سے بچنے کے لئے مجبوراً اس پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے؟

جواب: شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، محض بے اصل رسم ہے۔ شریعت کی طرف سے آزادی ہے، لڑکی شوہر کی مرضی سے چاہے میکے میں رمضان گزارے یا شوہر کے گھر گزارے، شریعت کی دی ہوئی اس آزادی کو اپنی طرف سے ختم کرنا اور لڑکی اور اس کے شوہر کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس رسم پر مجبور کرنا گناہ کی بات ہے، ایسا ہر گز نہ ہونا چاہئے۔

اذان کے اختتام تک کھاتے رہنا:

سوال: ایک آدمی دیر سے اٹھا، جب سحری کا وقت ۵ یا ۱۰ منٹ رہ گیا تو اس نے کھانا شروع کیا اور وہ اذان کے مکمل ہونے تک سحری کھاتا رہا تو کیا اُس کا روزہ ہو گیا یا نہیں؟ نیز سحری کا وقت صحیح کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ (شقیل بن عباس۔ پیر کوٹ، جھنگ)

جواب: اصل طریقہ یہ ہے کہ اپنی گھر یا معياری وقت پر کھی جائیں اور کسی مستند اور ماہر کے بنائے ہوئے اوقات کے نقشے میں دیئے گئے وقت سے پانچ منٹ پہلے سحری بند کر دی

جائے۔ مساجد، ٹی وی، ریڈیو وغیرہ کی اذانوں پر انحصار نہ کیا جائے، کیونکہ بسا اوقات وقت سے پہلے یا بعد میں بھی اذا نیں دی گئی ہیں۔ لہذا صورت مسؤولہ میں اگر نقشے کے وقت سے پہلے سحری بند کر لیتھی تو روزہ ہو گیا، اگر یقیناً معلوم ہو سکے کہ صحیح صادق کے بعد سحری کی ہے تو پھر قضاء لازم ہے اگر یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو سکے تو شک کی صورت میں قضاء کا حکم بالکل نہیں، البتہ غالب ظن اگر یہ ہو کہ وقت کے بعد سحری کر لی ہے تو احتیاطاً قضاء کر لیں۔

فی الہندیۃ : ”وإذا شك فی الفجر، فالأفضل أن يدع الأكل، ولو أكل فصومه تام، مالم يتيقن أنه أكل بعد الفجر، فيقضى حينئذ كذا فی فتح القدیر . وان كان أكبر رأيه أنه تسحر والفجر طالع، فعليه قضاءه ، عملا بغالب الرأى وفيه الاحتیاط، وعلى ظاهر الروایة لا قضاء عليه، كذا فی الهدایة، وهو الصحيح كذا فی السراج الوهاج .“ (ہندیۃ : ۱۹۵ / ۱ ، ومثله فی البدائع : ۶۳۳ / ۲)

سحری صحیح صادق کے قریب رات کے آخری حصے میں کھانا مستحب ہے۔ (مراقبی الفلاح) اگر بہت سوریے کھائی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔

سحری میں جگانے کے لئے لا ڈاپسکر کا استعمال:

سولہ: شہر میں حکومت کی طرف سے بجائے جانے والے سارے نکل کی آواز اتنی ہوتی ہے کہ تقریباً ہر گھر میں بآسانی پہنچ جاتی ہے، مگر سارے نجتے ہی مسجدوں میں شور برپا ہو جاتا ہے اور کئی لوگ سحری سے قبل ۳ بجے ہی لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور تقریباً ۲ گھنٹے تک یہی آواز آتی رہتی ہے کہ اٹھو اٹھو، جلدی کرو، کیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے؟

(ابن عبد الغفار۔ چینوٹ)

جوول: مروجہ طریقہ جس میں تسلسل کے ساتھ یا کچھ کچھ وقفہ سے بار بار یہ اعلان کیا جاتا ہے، کئی قباحتوں پر مشتمل ہے:

- (۱) یہ طریقہ متواتر و منقول نہیں۔
- (۲) لوگوں کی عبادت میں خلل کا ذریعہ ہے۔
- (۳) اس سے مریض و ضعیف افراد کو ایذا پہنچتی ہے۔
- (۴) مسجد کے لاڈاپسکر اور بھل کابے جا استعمال لازم آتا ہے۔
لہذا مذکورہ طریقہ کسی طرح بھی درست نہیں، اس سے احتراز لازم ہے۔

اختتام

arranged by:

Abu Zubair [inbox0313@yahoo.com]